

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا

جو لوگ کافر ہو گئے ہیں بہت دفعہ وہ خواہش کرتے تھے کہ کاش وہ

مُسْلِمِينَ ۝ ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُهُمُ

مسلم ہونے انکو چھوڑ دو کہ وہ کھائیں (پیس) اور نفع اٹھائیں اور امید انکو لہو و لعب

الْأَمَلِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ

میں ڈالے رہے آگے جگر تو انکو معلوم ہی ہو جائیگا اور رہنے ایک بستی (جی) ایسی لوگ نہیں کی

قَرِيَّةٍ إِلَّا أُولَٰهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ

کہ اُسکے لئے پہلے سے نوشتہ مقرر نہ تھا کوئی گروہ اپنے وقت تقرر سے

أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا

نہ آگے بڑھ جائیگا اور نہ وہ پیچھے ہی رجائے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسے وہ

الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ لَمَجْنُونٌ ۝ لَوْ مَا

شخص جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے تو ضرور دیوانہ ہے اگر تو سچوں

تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

میں سے ہوتا تو ہمارے پاس نوشتہ کیوں نہ لیکر آتا؟

مَا نَزَّلَ الْمَلَكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا

فرشتوں کو تو ہم سوچ ہی سے بھبا کرتے ہیں اور (جلی طن جینے ہیں) پھر انکو مکت نہیں

مُنظَرِينَ ۝ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

دیکھائی بیش ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اُسکے محافظ ہیں

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَابِ الْأَوَّلِينَ ۝

اور باقی حقین جنے نے پہلے اگلے گروہوں میں (جی) رسول بھیجے

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

اور ایک رسول بھیجے اُسکے پاس ایسا نہ آتا تھا کہ وہ اسکی ہنسی نہ اڑاتے ہوں

Handwritten marginal notes in Urdu script on the left side of the page, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal notes in Urdu script on the right side of the page, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal notes in Urdu script at the bottom of the page, providing commentary and explanations for the verses.

كَذَلِكَ نَسُكُّكَ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝ لَا يُؤْمِنُونَ

مجرموں کے دلوں میں (بسیب اعلیٰ شراوتوں کے) ہم ایسا ہی ڈال دیا کرتے ہیں وہ اسپر ایمان نہ لائے

بِهِ وَقَدْ خَلَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَلَوْ فَتَحْنَا

جس حال میں کہ پہلوں کی روشنی ہی ہو چکی ہے اور اگر ہم ان پر آسمان کا ایک

عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرَجُونَ ۝

دروازہ کھول دیں اور یہ دن بھر اُسپر چڑھنے چلے جائیں تو وہی ہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی لڑی گئی ہے

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ

بلکہ ہم تو جاو کے مارے ہوئے

مَسْكُورُونَ ۝ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا قَافٍ

اور یقیناً بنے آسمان میں برج مقرر کیے اور

زَيِّتُهُمُ اللَّطِّيفِينَ ۝ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ

دیکھنے والوں کے لئے لطف کو زینت دی اور ہر شیطان عین سے اُسکی حفاظت کی

رَجِيمٍ ۝ إِلَّا مَن أَسْرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ

سوائے اُسکے جو چوری کیے کچھ سن لے تو وہی ایک چمکتا ہوا ستارہ اُسکا چمکاتا

مُبِينٌ ۝ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَقَيْنَاهَا رِوَابِي

یٹا ہے اور زمین کو بننے پھیلایا اور اُس میں اُسے اُسے ہار قائم کر دئے اور ہر شاہ

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۝ وَجَعَلْنَا لَكُمْ

چیز اُس میں اگادنی اور اُس میں تمہاری زندگی

فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِينَ ۝ وَإِن مِّنْ

بسر کرنے والے بھی (سماں مقرر کرنے اور اُسکے بھی حکومت دینی تھیں) والے نہیں ہوں ایک چیز بھی ایسی نہیں

شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝

ہے جسکے خزانے (کے خزانے) ہمارے پاس نہیں اور ہم سلو مقررہ اندازہ ہی نازل کرنے رہتے ہیں

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large 'مذکورہ' (Mentioned) header and various explanatory text.

Handwritten marginal notes at the top of the page, including the word 'ربما' and other commentary.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ كَوَافِحٍ فَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

اور پتے پانی سے بھری ہوئی ہوا میں ہمیں پھر سنبھ آسمان سے پانی آسرا

فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ○ وَلَا تَأْكُلُوا

پھر سنبھکو وہ (پانی) پلایا حالانکہ تم تو پانی کے جمع کرنے والے نہیں ہو اور شیک

لَنْحْنُ غَمِيٍّ وَنُحِبُّتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ○ وَلَقَدْ

ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی اصلی وارث ہیں اور تم میں سے جو بچے تھے

عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ ○ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ○

انکو بھی جانے جان لیا اور جو تم میں سے بعد میں آئے ہیں انکو بھی جانے جان لیا

وَلَا تَكْفُرُوا بِالرَّبِّ كَافِرِينَ ○ وَلَقَدْ

اور یقیناً تمہارا پروردگار وہی تو انکو جمع کر گیا با تحقیق وہی حکمت والا (اور) حکم والا ہے اور شیک

خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ○

سچے آدمی کو کھنکھاتی سنی ہوئی سیاہ سڑی ہوئی کچھڑے پیدا کیا

وَالجَانِ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِ السَّمُومِ ○ وَإِذْ

اور ہم ہی نے جنوں کو پہلے ہی نہایت تیز آگ سے پیدا کیا تھا اور اسوقت کو یاد کرو

قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ

جبکہ تمہارے رب نے کل فرشتوں سے کہا تھا کہ میں ایک آدمی کو کھنکھاتی سنی ہوئی سیاہ سڑی ہوئی

مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ○ فَاذْأَسْوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ

کچھڑے سے پیدا کرتی ہوں پھر جب میں اسکو بنا چکوں اور اپنی اہلی ہوئی (روح) میں

مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ○ فَسَجَدَ الْمَلَكَةُ

بھونک چکوں تو تم اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا اس پر بھی فرشتوں نے تو

كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ○ إِلَّا إِبْلِيسَ ابْنِ آدَمَ ○ فَكَانَ مِنْ

سجدہ کیا نہ کیا تو ابلیس نے اسے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے

مہربان

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text.



اجْمَعِیْنَ ۝ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ۝ لِکُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ

جگے سات دروازے ہیں ان میں سے ہر دروازہ کے لئے بٹا ہوا

جَزَاءً مَّقْسُوْمًا ۝ اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِیْ جَنَّتٍ وَعِیْوَنٌ

حصہ (مقرر) ہے بیشک پرہیزگار لوگ جنتوں اور جیموں (والی زمین) میں ہونگے

اَدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِیْنٍ ۝ وَتَرَعْنَا مَا فِیْ صُدُوْرِهِمْ

(وہ) کہے گا جیسا کہ انہیں امن امان رسالتی کے ساتھ چلے آئے اور ان کے دلوں میں جو کچھ کہیں ہو گا ہم سب کو جان کر

مِّنْ غَلِ اِخْوَانًا عَلٰی سُرِّ مَّتَقَبِلِیْنَ ۝ لَا یَمَسُّهُمْ

اور وہ جنتوں پر ایک دوسرے کے مقابل بھائی بھائی کی حیثیت سے کھینچے ہوئے نہ ان جنتوں میں انکو کوئی سب

فِیْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِنْهَا بِخٰرِجِیْنَ ۝ نَبِیُّ عِبَادِیْ

بہنچکا ہے نہ وہ اُنے نکالے جائینگے (اسے رسول) میرے بندوں کو

اِنِّیْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۝ وَاِنَّ عَذَابَیْ هُوَ الْعَذَابُ

خبر دید کہ میں ہی بڑا بخشنے والا اور (رحم کرنے والا) ہوں اور یہ کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب

الْاَلِیْمُ ۝ وَتَبَّہُمْ عَنْ ضِیْفِ اِبْرٰہِیْمَ ۝ اِذْ دَخَلُوْا

ہے اور انکو ابراہیم کے مہمانوں کا واقعہ سنا دو کہ جب وہ اُنکے پاس

عَلِیْہِ فَقَالُوْا سَلَامًا ۝ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُوْنَ ۝ قَالُوْا

آئے اور انہوں نے سلام کیا تو ابراہیم نے کہا کہ ہم تو تھے ڈرنے میں انہوں نے کہا کہ

لَا تَوْجَلْ اِنَّا نَبَشِّرُکَ بِغُلٰمٍ عَلِیْمٍ ۝ قَالَ اَبَشِّرْ تَمُوْنِیْ

ڈرے نہیں ہم تو آپکو ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں (ابراہیم نے کہا کہ کیا تم مجھکو بتا رہے

عَلٰی اِنْ مَّسَّنِی الْکِبَرُ فِیْمَ تَبَشِّرُوْنِ ۝ قَالُوْا اَبَشِّرْ نٰکَ

حال میں خوشخبری دیتے ہر جبکہ بھیر بڑھا چھا گیا تو کس بات کی خوشخبری دے ہو انہوں نے کہا کہ تم تو ایک ٹھیک

بِالْحَقِّ فَلَا تَکُنْ مِنَ الْقٰنِطِیْنَ ۝ قَالَ وَمَنْ یَّقْنَطُ

ٹھیک خوشخبری دی ہے جس آپ مایوس ہونوالوں میں سے نہ ہوں فرمایا سوائے گمراہوں کے اپنے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ' and 'الحجرات'.

الحجرات

ان دونوں میں سے ایک کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے اور دوسرے کو بچائے۔ ان دونوں میں سے ایک کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے اور دوسرے کو بچائے۔ ان دونوں میں سے ایک کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے اور دوسرے کو بچائے۔

الحجرات

۴۲۲

ربما

مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۚ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ

رب کی رحمت سے نا امید کون ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا کہ اے ایچچو! تم لوگو کیا تم

أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۚ قَالُوا إِنَّا رَسُولُنَا إِلَى قَوْمٍ

در پیش ہے؟ عرض کی ہم ایک مجرم گروہ کی طرف عذاب دینے کے لئے

مُجْرِمِينَ ۚ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمَنجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ

بچے گئے ہیں سوائے آل لوط کے کہ ان سب کو ہم ضرور بچا دیں گے

إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ۚ فَلَمَّا جَاءَ

مگر زوط لوط (جسکی نسبت) ہم نے سمجھ لیا ہے کہ وہ ضرور بچے رہنے والوں میں سے ہوگی پھر سوقت یہ ایچی

آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّسْكِرُونَ ۚ

وہا کے کتب کے پاس بیٹھے تو لوط نے فرمایا کہ تم تو اجنبی (معلوم ہوتے) ہو

قَالُوا بَلْ جُنُنكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ۚ وَ

انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لیکر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے اور

اتَّبَعْنَا بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۚ فَاسْرِبْ بِأَهْلِكَ

ہم آپ کے پاس برحق حکم لیکر آئے ہیں اور ہم ضرور سچے ہیں پس آپ کچھ رات رہنے سے

بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ

اپنے کنبہ کو چلنا کیجئے اور خود اپنے پیچھے پھرتے جانے اور آپ صاحبوں میں سے

مِنْكُمْ أَحَدٌ وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۚ وَ

کوئی پیچھے پھر کر نہ دیکھے اور جہاں تم کو حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جاؤ اور یہ حکم

قَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهُمْ لَوَّاعٌ

ہم نے قطعی طور سے تم کو سنا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ

مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۚ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدْيَنَةِ

کاٹ دیا گیا اور اس شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے

ان دونوں میں سے ایک کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے اور دوسرے کو بچائے۔ ان دونوں میں سے ایک کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے اور دوسرے کو بچائے۔ ان دونوں میں سے ایک کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے اور دوسرے کو بچائے۔

ان دونوں میں سے ایک کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے اور دوسرے کو بچائے۔ ان دونوں میں سے ایک کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے اور دوسرے کو بچائے۔ ان دونوں میں سے ایک کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے اور دوسرے کو بچائے۔

اللہ



يَسْتَبْشِرُونَ ۝ قَالَ إِنْ هُوَ إِلَّا ضَيْفِي فَلَا تَفْخَرُونَ ۝

آئے (لوٹنے) فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں پس تم مجھے نصیحت نہ کرو

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزَوْنَ ۝ قَالُوا أَوْلَمْ تَنْهَكْ عَنِ

اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو وہ کہنے لگے کیا ہمیں آپ کو لوگوں کے مہمان کرنے

الْعَالَمِينَ ۝ قَالَ هُوَ لِأَبْنَتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعَالِينَ ۝

سے منح نہیں کر دیا تھا؟ فرمایا کہ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں

لَعَمْرُكَ أَنْهَمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَمْهُون ۝ فَأَخَذْتُم

(اے رسول) تمہاری جان کی قسم وہ یقیناً اپنے نشے میں لڑکھڑا رہے تھے پس سوچ نکلتے نکلتے

الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ۝ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا ۝

آنکھوں میں آلیا پھر ہم نے ان بستیوں کو زیر و زبر کر دیا اور (اوپر سے)

أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ فِي ذَلِكَ

ہے انہر پھرائی ہوئی مٹی کے ڈھیلے برسائے یقیناً اس (واقعہ) میں سمجھنے والوں

لَايَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ۝ وَإِنَّهَا لِبَسْبِيلٍ مُّقِيمٍ ۝

کے لئے نشانیاں ہیں اور یقیناً وہ (یعنی ان بستیوں کے نشان) قائم رہتے رہے جو وہ ہیں اس

فِي ذَلِكَ لآيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ

(واقعہ) میں بیشک مومنوں کے لئے ایک نشانی ہے اور بننے والے یقیناً

الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ۝ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ

نا فرمان تھے پس ہم نے اُن سے بھی بدلہ لیا اور ان دونوں کے بھٹکار کھلے

مُؤْمِنِينَ ۝ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجْرِ الْمُرْسَلِينَ ۝

راستہ پر ہیں اور حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا

وَآتَيْنَهُم آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ وَكَانُوا

اور ہم نے ان کو نشانیاں دی تھیں پھر وہ اُن سے روگرداں رہے اور پہاڑوں کو

یہاں سے اس واقعہ کی تفصیل ہے کہ جب اللہ نے ان لوگوں کو آیتیں بھیجیں تو انہوں نے انہیں جھٹلایا اور انہیں سزا دی۔ اس واقعہ کی تفصیل قرآن مجید میں ہے۔

تفصیلاً

پہاڑوں کو

یہاں سے اس واقعہ کی تفصیل ہے کہ جب اللہ نے ان لوگوں کو آیتیں بھیجیں تو انہوں نے انہیں جھٹلایا اور انہیں سزا دی۔ اس واقعہ کی تفصیل قرآن مجید میں ہے۔





فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

اب تک جو کچھ حکم دیا جاتا ہے وہ کھول کر سنا دو اور مشرکوں کو روک دانا کر لو (یعنی انہی ذرا پروا نہ کرو)

اِنَّكَ كَافِيَةٌ بِالْمُسْتَهْزِئِينَ ۝ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ

انہی ہنسنے والوں کے شہیرے پھیلانے ہم تک کفایت کرنے کے جو اللہ کے ساتھ اور مبعود قرار

مَعَ اللّٰهِ الْاٰخِرَةَ فَيَسُوْنَ يَكْمُوْنَ ۝ وَلَقَدْ نَعَلْنَا

دینے ہیں پھر آگے چل کر وہ (بھی حقیقت حال) جان لینے اور ہم یہ جانتے ہیں

اِنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں تم اس سے دلنگ ہوتے ہو پس تم اپنے رب کی تسبیح پڑھو

وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ ۝ وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يٰٓاتِيْكَ الْيَقِيْنَ

اور سجدے کرو اور جب تک تکلموت نہ آئے اپنے رب کی عبادت کرتے رہو

سُوْرَةُ النّٰحْلِ كِتٰبِهَا وَهِيَ مِائَةٌ وَّثَمٰنُ وَعِشْرُوْنَ اٰيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رحمن (رحیم خدا کے نام سے) شروع کرتا ہوں

اِنِّىْ اَمْرٌ لّٰلّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى

عذاب خدا آگیا پس اس کے لئے جلدی نہ کرو جن چیزوں کو یہ شریک قرار دیتے ہیں اُسے

عَمَّا يَشْرِكُوْنَ ۝ يَنْزِلُ الْمَلٰٓئِكَةُ بِالرُّوْحِ مِنْ

وہ منزلہ و برتر ہے فرشتوں کو عالم ملکوت سے وہی دیکر اپنے بندوں میں سے

اَمْرِهِمْ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ اَنْ اَنْذِرُوْا

جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے کہ لوگوں کو یہ جلا دو کہ میرے سوا کوئی مبعود

اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْنَ ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

نہیں ہے پس مجھ ہی سے ڈرو اُسے آسمانوں کو اور زمین کو



Extensive marginal commentary in Urdu script surrounding the main text, providing detailed explanations and translations.



الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ

تھارے لئے یعنی پھل اور زیتون کے درخت اور کھجور کے درخت اور انگور اور ہر طرح کے پھل

الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

بیشک غور و فکر کرنے والوں کے لئے اسی میں ایک نشانی موجود ہے

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

اور اسے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو تمہارا کام میں لگا دیا ہے

وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ رَبِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ

اور ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں بیشک عقل رکھنے والوں کے لئے اسی میں ہی ہمت سی

يَعْقِلُونَ ○ وَمَا ذَرَأْنَا فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا

نشانیوں کو جو تمہارے نفع کے لئے آسنے زمین میں پیدا کیا ہے وہ رنگ رنگ پر

أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ○ وَهُوَ

بیشک یاد رکھنے والوں کے لئے اس میں (بھی) نشانی موجود ہے اور وہ (خدا)

الَّذِي سَخَّرَ الْجَبَلَ لَنَا كُلًّا مِنْهُ لِيَأْكُلُوا تَحْتَ الْجِبَالِ

وہی ہے جسے سمندر کو (تمہارا) مطیع کر دیا ہے کہ تم اس میں سے تازہ تازہ گوشت کھاؤ اور

مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى فِي السَّمَاءِ مَوَاقِفَ

اس میں زہر کی چیزیں نکال کر پہنو اور تم دیکھتے ہو کہ جہاز اس کو چیرنے ہوئے چلے جا رہے

وَالسَّمَوَاتِ لِيَذَّبَ الْبِلَاقِ وَالسَّمَاءِ لِيَذَّبَ الْبِلَاقِ ○ وَالْقَمَرَ

ہیں اور (اس مطیع کر دینے سے غرض) یہی کہ تم خدا کے فضل کے خوشگوار ہو اور یہ کہ شکر گزار ہو اور زمین

فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا

میں آسنے بڑے بڑے پہاڑ قائم کر دئے کہ تم کو لیکر وہ کسی طرف جھک نہ جائے اور نہیاں اور راستے

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○ وَعَلَّمَتْ بِالنَّجْمِ

بنادئے کہ تم راہ پاؤ اور علامتیں (مقرر کر دیں) اور ایک مقررہ اشارہ گذر دینے

وہی ہے جسے سمندر کو (تمہارا) مطیع کر دیا ہے کہ تم اس میں سے تازہ تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں زہر کی چیزیں نکال کر پہنو اور تم دیکھتے ہو کہ جہاز اس کو چیرنے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور زمین میں آسنے بڑے بڑے پہاڑ قائم کر دئے کہ تم کو لیکر وہ کسی طرف جھک نہ جائے اور نہیاں اور راستے بنادئے کہ تم راہ پاؤ اور علامتیں (مقرر کر دیں) اور ایک مقررہ اشارہ گذر دینے

تخل

اور اس میں زہر کی چیزیں نکال کر پہنو اور تم دیکھتے ہو کہ جہاز اس کو چیرنے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور زمین میں آسنے بڑے بڑے پہاڑ قائم کر دئے کہ تم کو لیکر وہ کسی طرف جھک نہ جائے اور نہیاں اور راستے بنادئے کہ تم راہ پاؤ اور علامتیں (مقرر کر دیں) اور ایک مقررہ اشارہ گذر دینے

یہاں سے لے کر اس آیت تک جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے فرمائی ہے اس میں جو کچھ مذکور ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو کچھ چاہا ہے وہ سب ہی فرمایا ہے اور جو کچھ نہیں چاہا وہ نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے فرمایا ہے وہ سب ہی ان کے لیے نفع مند ہے۔ اور جو کچھ نہیں فرمایا ہے وہ ان کے لیے نقصان مند ہے۔ اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے فرمایا ہے وہ سب ہی ان کے لیے نفع مند ہے۔ اور جو کچھ نہیں فرمایا ہے وہ ان کے لیے نقصان مند ہے۔

يَهْتَدُونَ ۝ اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

لوگ راہ پالیتے ہیں کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اُس کے مانند ہو سکتا ہے جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتا کیا تم اتنا

تذکرون ۝ وَاِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۗ

نہیں سمجھتے اور اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرو گے تو اسے پورا کون نہ سکو گے

اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوْنَ

بیشک اللہ بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو

وَمَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور اللہ کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں وہ ایک چیز بھی پیدا

لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يَخْلُقُوْنَ ۝ اَمْ اَوَاتٌ غَيْرُ

نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں مُردے ہیں زندہ

اَحْيَاءٌ وَمَا يُشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يَبْعَثُوْنَ ۝ اَلْهٰكُمُ اللّٰهُ

نہیں ہے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ دوبارہ کب اٹھائے جائینگے تمہارا عبود عبود کیا

وَاحِدٌ ۗ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ

بے پھر وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے دل اُسے کافر ہیں

مُنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ ۝ لَاجْرَمًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ

اور وہ خود بڑا بنا جاتے ہیں بیشک یہ ضرور ہے کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور

مَا يُسْرُوْنَ وَمَا يَعْلَمُوْنَ ط اِنَّهٗ لَا يَحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ۝

جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اُس سب کو اللہ جانتا ہے البتہ وہ بڑے بے والوں کو دوست نہیں رکھتا

وَازْاَقِيْلٍ لَّهُمْ مَا ذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْا اَسَاطِيْرُ

اور جو قوت اُسے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ کیا نازل کیا تو کہتے ہیں کہ یہ تو پہلوئی

الْاَوَّلِيْنَ ۝ لِيَحْمِلُوْا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

کہانیاں ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ تو یہ پورے پورے اٹھائینگے

یہاں سے لے کر اس آیت تک جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے فرمائی ہے اس میں جو کچھ مذکور ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو کچھ چاہا ہے وہ سب ہی فرمایا ہے اور جو کچھ نہیں چاہا وہ نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے فرمایا ہے وہ سب ہی ان کے لیے نفع مند ہے۔ اور جو کچھ نہیں فرمایا ہے وہ ان کے لیے نقصان مند ہے۔ اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے فرمایا ہے وہ سب ہی ان کے لیے نفع مند ہے۔ اور جو کچھ نہیں فرمایا ہے وہ ان کے لیے نقصان مند ہے۔

یہاں سے لے کر اس آیت تک جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے فرمائی ہے اس میں جو کچھ مذکور ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو کچھ چاہا ہے وہ سب ہی فرمایا ہے اور جو کچھ نہیں چاہا وہ نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے فرمایا ہے وہ سب ہی ان کے لیے نفع مند ہے۔ اور جو کچھ نہیں فرمایا ہے وہ ان کے لیے نقصان مند ہے۔ اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے فرمایا ہے وہ سب ہی ان کے لیے نفع مند ہے۔ اور جو کچھ نہیں فرمایا ہے وہ ان کے لیے نقصان مند ہے۔



کتاب اللہ عزوجل نے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کر دیے ہیں ان کو جنت کا اجر عظیم عطا کیا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ

اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ

تو وہ کہتے ہیں خیر (نازل کی ہے) جو نیکی کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی نیکی ہے اور آخرت کا کھرا

خَيْرٌ ۗ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۗ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا

بہتر ہے اور پرہیزگاروں کا گھر اور بھی اچھا ہے دو امی باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوتے ہیں

بِجَنَّتَيْنِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوئی (اور) ان میں جو کچھ وہ چاہیں گے انکو ملے گا ان پرہیزگاروں کو

كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۗ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُم

خدا تعالیٰ ایسی ہی جزا دے گا جنکا تاہ فرشتوں نے ایسی حالت میں

الْمَلَائِكَةَ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا

کیا ہوگا کہ وہ پاک و صاف ہونے اور فرشتے ان سے یہ کہتے ہوئے سلام علیکم جو عمل تم

الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا

کیا کرتے تھے ان کے عوض تم جنت میں جاؤ کیا یہ اس کے انتظار میں ہیں کہ فرشتے

أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ كَذَلِكَ

انکے پاس آجائیں یا تمہارے پروردگار کا حکم (عذاب) انہیں آجائے؟ جو ان سے پہلے

فَعَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ

تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور اللہ نے انہیں کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ

كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۗ فَاصْبِرْ لَهُمْ سَبًّا

اپنی جانوں پر (آپ) ظلم کیا کرتے تھے بھراؤنی کر توت کی برائی انہیں ملی

مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

اور جس چیز کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اسی نے انکو آن گھیرا

ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کر دیے ہیں ان کو جنت کا اجر عظیم عطا کیا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔

اللہ

وع

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کر دیے ہیں ان کو جنت کا اجر عظیم عطا کیا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔







السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ

الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ أَوْ يَأْخُذَهُمْ

الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ أَوْ يَأْخُذَهُمْ

فِي ثَلَاثِ نَجْمَاتٍ ۚ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى

أَعْيُنِهِمْ فَاصْبِرُوا ۚ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ أَوْ يَأْخُذَهُمْ

مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ أَوْ يَأْخُذَهُمْ

فِي ثَلَاثِ نَجْمَاتٍ ۚ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى

أَعْيُنِهِمْ فَاصْبِرُوا ۚ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ

أَوْ يَأْخُذَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي ثَلَاثِ نَجْمَاتٍ ۚ

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاصْبِرُوا ۚ

وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ أَوْ يَأْخُذَهُمْ

مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ أَوْ يَأْخُذَهُمْ

فِي ثَلَاثِ نَجْمَاتٍ ۚ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى

أَعْيُنِهِمْ فَاصْبِرُوا ۚ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ

أَوْ يَأْخُذَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي ثَلَاثِ نَجْمَاتٍ ۚ

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاصْبِرُوا ۚ

وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ أَوْ يَأْخُذَهُمْ

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اور وہ زمین میں سے اٹھائے گا اور زمین کو زمین میں ڈال دے گا' and 'اور وہ زمین میں سے اٹھائے گا اور زمین کو زمین میں ڈال دے گا'.

Handwritten note: 'اور وہ زمین میں سے اٹھائے گا اور زمین کو زمین میں ڈال دے گا'.





Handwritten notes at the top of the page, including the word 'المفضل' on the left and 'الربما' on the right.

المفضل (۱۳۶) الربما

وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اُنکے لیے رحمت اور رحمت جو اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا

مَاءً فَأَحْيَاهُ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً

اور اسی کے ذریعے سے زمین کو اُسکی موت کے بعد زندہ کر دیا بیشک اسیں اُن لوگوں کے لیے

لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً

جو سنتے ہیں نشانی موجود ہے اور بیشک تمہارے لیے جو جانوروں میں عبرت موجود ہے

نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَنَا

ہم اُنکے پیٹ میں جو گوبر اور خون وغیرہ ہے اُس سے الگ کر کے تازہ تازہ دودھ نکال دیتے ہیں

خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّرِبِ ۝ وَإِنَّ فِي الْغَنَاقِ

جو پیئے والوں کو بہت ہی گوارا ہوتا ہے اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشہ کی

وَالْأَعْنَابِ لَتُخَذُّونَ مِنْهُ سُكْرًا أَوْ رِزْقًا حَسَنًا

چیزیں بھی بنایا کرتے ہو اور اچھی روزی (بھی) بیشک بچنے والوں کے لیے

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَأَوْحَى رَبُّكَ

اسی میں نشانی (موجود ہے) اور تمہارے پروردگار نے

إِلَى الْغُلِّ أَنْ لَتُخْذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ

شہد کی کھئی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے اور درختوں میں اور

وَمِمَّا يُعْرِشُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّمْنَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَأَسْمِكُ

اُن کو کھانے اور پینے کے چھتوں میں جو لوگ بناتے ہیں پھر ہر پھل میں سے تو کھا اور اپنے پروردگار کے

سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا لَّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ

رستوں میں بجز ذرا گھار کے ساتھ چلی جا اس کھئی کے پیٹ سے ایک شربت رنگ رنگ کا

مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

نکلتا ہے جس میں آدمیوں کے لیے شفا ہے بیشک غور و فکر کر لو ان لوگوں کے لیے

Extensive handwritten marginal notes on the right side of the page, providing commentary and translations for the main text.



لَا يَأْتِيَنَّكُمْ لِقَوْمٌ يُنْفِرُونَ ○ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ

اسی میں ایک نشانی موجود ہے اور اللہ نے مخلوق پیدا کیا ہے پھر وہی تمہارا خالق ہے

وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ

اور تم میں سے کوئی کوئی ایسا بھی ہے جو کئی عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ جاننے کے بعد پھر ہر علم سے

بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيمٌ ○ وَاللَّهُ فَضَّلَ

لا علم ہو جائے بیشک اللہ جاننے والا اور قدرت والا ہے اور خدا نے روزی اور ہی تم

بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا

میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے پس وہ جنکو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے

بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَمَا فِيهِ

ماتحتوں کو دینے والے نہیں ہیں مرزوق ہونے میں تو وہ سب برابر ہیں پھر کیا وہ اللہ کی نعمتوں

سَوَاءٌ هُمْ أَفْنَعَمَ اللَّهُ بِمُحَدِّثِينَ ○ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ

کا انکار کرتے ہیں اور اللہ نے تمہاری ہی جنس میں سے

مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّعَلَّكُمْ تَزَوَّجُونَ ○ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ

تمہارے لئے ازواج مقرر کی ہیں اور تمہاری ازواج سے تمہارے لئے

بَيْنَ وَحَفْدَةٍ وَرِزْقِكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالِغِ

پہنچے اور ہونے بنا دئے اور اچھی اچھی چیزوں میں سے عطا فرمائیں کیا پھر اچھی اور باطل پر

يَوْمِنُونَ ○ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ○ وَيَعْبُدُونَ

ایمان لائیتے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کئے جاتے اور اللہ کو چھوڑ کر

مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ

انہی عبادت کرتے رہتے جو آسمان کی اور زمین کی کسی چیز کا اختیار

وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ○ فَلَا تَضُرُّهُ أَلَّهُ

نہیں رکھتے کہ انکو بطور رزق کے دیدیں اور نہ کچھ اور ہی کر سکتے ہیں پس اللہ کو کوئی شے نہیں

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the word 'تخلل' (Takhall) and various religious and philosophical reflections.

ع ۱۵

تخلل

رسول خدا اور تمام نبیوں اور دین اسلام مراد ہے -۱۲-



لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

کچھ بھی نہ جانتے تھے اور اسی نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے

وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ الْمُرُورِ إِلَى

تاکہ تم شکر ادا کیا کرو کیا ان لوگوں نے ان چیزوں

الطَّيْرِ مُسْتَحْرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ

کی طرف جو آسمان سے خلا میں تابعدار اڑتے رہتے ہیں خیال نہیں کیا اس ظلم پر سو اذکار کو

لَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ

کوئی اور روک ہوئے ہے بیشک ایمان والوں کو ان کی نشانیوں میں اور اللہ نے تمہارے لئے

لَكُمْ مِّنْ بَيْوتكم سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ

تمہارے گھر میں آرام کی جگہ بنائی اور تمہارے لئے چوپایوں کی کھال سے مکان (یعنی جیسے) مقرر کر دی

بِئُوتِكُمْ لِيَوْمِ مَرْضَعِكُمْ وَيَوْمَ ظَمْتِكُمْ

جگہ تم اپنے کوئی دن اور مقام کے دن (اٹھانے بچانے میں) ہلکا بھلکا پائے ہو

وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا قَآ

اور بھیروں کی آؤں سے اور اونٹوں کی آؤں سے اور بکریوں کے بالوں سے تمہاری لہو اور ٹھنڈے

مَتَاعًا لِإِي حِينٍ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا

بچھانیکے سامان اور نفع اٹھانے کا اسباب ایک وقت میں تک لہو (مقرر کر دیا) اور جو چیزیں اللہ نے

وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ

پیدا کی ہیں ان میں سے بعض کو سارا تمہارے لئے بنا دیا اور پہاڑوں میں تمہارے بسنے کے لئے محفوظ مقام مقرر کر دی

سَرَائِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَائِيلَ تَقِيكُمُ الْبَأْسَ كُمْ

اور تمہاری لہو ایسے کپڑے پیدا کئے جو تمہیں گرمی سے بچائے ہیں اور ایسے لباس بنا دیے جو تمہیں دشمنوں سے

كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۝

محفوظ رکھتی ہیں اس طرح وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے تاکہ تم حقیقی اطاعت کرو

الغزل

معاذ اللہ... اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں ہمارے دل پہ لکھی جائیں اور ہم ان سے عمل کر سکیں۔ آمین

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝ يَعْرِفُونَ

اگر وہ روگرداں ہوں تو تمہارے ذمہ تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے وہ اللہ کی

نِعْمَتِ اللَّهِ ثُمَّ يَنْكُرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ۝

نعمت کو چھپاتے ہیں پھر بھی اسکا انکار کرتے ہیں حال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کافر ہیں

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ

اور جب دن ہم ہر امت کے ایک گواہ کو بلائیں پھر وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں انکو کوئی اجازت

لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝ وَإِذْ آذَى الَّذِينَ

دیجائیں گے اور نہ انکا کوئی عذر مانا جائیگا اور جسوقت وہ لوگ جنہوں نے

ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يَخَفُّ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝

ظلم کیا ہے عذاب کو کھینچنے کو پھر نہ انکا عذاب کم کیا جائیگا اور نہ انکو مہلت دیجائیں گے

وَإِذْ آذَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَّكَاءَ هُمْ قَالُوا رَبَّنَا

اور جسوقت وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے اپنے شرکوں کو دیکھیں گے کہ اپنے شرکاء پر ہونگا

هُوَ لَا شَرَّكَاءَ وَكَالَّذِينَ كَفَرُوا كُفَرُوا دُونِكَ ۝

یہ ہمارے شرک میں جنکو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے ہیں وہ شرکاء بات کو

فَالْقَوْمَ إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ وَالْقَوْمَ

انہی پر الٹ دیکھو کہ تم جھوٹے ہو اور وہ اس دن

إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

خدا کی حضور میں صلح پیش کریں گے اور جو کچھ جھوٹ وہ بولا کرتے تھے وہ سب ان سے

يَفْتَرُونَ ۝ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْبُرْ ۝ وَعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

جاتا رہیگا وہ لوگ جو کافر ہو گئے اور راہ خدا سے وہ روکا کرتے تھے

زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا

تو بوجہ اس کے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے ہم انکے عذاب پر عذاب زیادہ

معاذ اللہ... اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں ہمارے دل پہ لکھی جائیں اور ہم ان سے عمل کر سکیں۔ آمین

معاذ اللہ

معاذ اللہ... اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں ہمارے دل پہ لکھی جائیں اور ہم ان سے عمل کر سکیں۔ آمین

يُفْسِدُونَ ۝ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

کر دیئے اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ انہی کے برخلاف بھوت

عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَا

کریں اور (اسے رسول) ان سب پر تمکو گواہ بنا کر بلائیے

هُوَ لَكُمْ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ ہر چیز کا بلیغ بیان (ہے)

وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝ إِنَّ اللَّهَ

اور حقیقی اطاعت کرنے والوں کے لئے ہدایت و رحمت و خوشخبری بالتحقیق اللہ

يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ

عدل کا اور احسان کا اور ذوی القربے کو (ان کے حقوق) دینے کا

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ

مکرم دیتا ہے اور بھائی اور بدی اور بناوت سے منع فرماتا ہے تمکو نصیحت کرتا ہے

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ

تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کے عہد کو جب تم عہد کر چکے ہو راکرو اور تمہیں کو

وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ

انکے پختہ کر دینے کے بعد نہ توڑو جن مال میں کہ تم اللہ کو

عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ وَلَا

ضامن دیکھو ہو بیشک جو کہ تم کرو گے اللہ اس خوب واقف ہے اور تم

تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا

اُس عورت کے مانند نہو جانا جو اپنے کانٹے ہوئے کو مضبوط ہو جائیے بعد مگر ٹکڑے کرے

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ

کر دیا کر ان سبھی کہ تم بھی اپنی قسموں کو باہمی مکر و حیلہ کا سبب بنا لو (اس خیال سے) کہ ایک

۴۴۱

مکرم

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large 'مکرم' (Makram) written vertically.

Handwritten marginal notes in Urdu script at the bottom of the page.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الدِّیْنَ ۝ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

مکمل

اُمَّةٌ هِيَ اَرْبَى مِنْ اُمَّةٍ اِنَّمَا يَلُوْكُمْ اللهُ بِهٖ ط

گروہ دوسرے سے بڑھا چڑھا ہے سوائے اسکے نہیں ہے کہ اللہ اس کے ذریعہ ہی تمہارا

وَلَيَبِيْنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

اگر اس کی کتاب اور جو کچھ تم کیا کرتے تھے اس سب کو ضرور تمہاری لائقیات کو دن میں صاف کھول دیا

وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُضِلُّ

اور اگر اللہ چاہتا تو تمکو ایک ہی گروہ بنا دیتا لیکن وہ جس سے چاہتا ہے تو مین ہدایت سلب کرتا

مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ۝ وَلَسْتَ لَنْ عَمَّا

ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرما دیتا ہے اور تم جو کچھ کرتے رہتے ہو اسکی بائیکا

كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيْمَانَكُمْ دَخَلًا

مزدور ضرور باز پرس کیا جائیگی اور تم اپنی قسموں کو باہمی کمر و جید کا سبب نہ بناؤ کہ جسے کمر و

بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۭ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْءَ

پھر پاؤں اکٹڑ جائیں اور اسکے بدلے میں کہ تم راہ خدا سے روکنے رہتے تھے بُرائی

بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۝ وَاَكْرَمُ عَذَابِ

کا مزا چھو اور تمہارے لئے سخت

عَظِيْمٍ ۝ وَلَا تَشْرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمٰنًا قَلِيْلًا ۝ اِنَّمَا

عذاب ہو اور خدا کے عہد کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیجو بیشک جو کچھ

عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ مَا

اللہ کے پاس ہے وہ بہت اچھا ہے بشرطیکہ تم سمجھو جو کچھ

عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۝ وَلَيَجْزِيَنَّ

تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائیگا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہیگا اور جن لوگوں نے

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَاَجْرُهُمْ يٰحْسَنُ مَا كَانُوْا

صبر کیا انکا اجر تم ضرور اس سے کہیں بہتر عطا کریجے جیسے کہ وہ عمل

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے حکم دیا تھا کہ علی کو امیر المؤمنین لکھے سلام کیا کرو۔ ۱۲۔ خ خ خ خ خ خ



يَعْمَلُونَ ۝ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ

کیا کرتے تھے مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے جو شخص بھی کوئی نیک عمل کرے گا یا لڑکی

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَنَجْزِيَنَّهُمْ

وہ ایمان رکھنے والا ہو تو ضرور تم اسکی زندگی اچھی گزار دینگے اور جو عمل وہ کیا کرتے تھے انکا

اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَآذِقْنَهُنَّ

اس سے کہیں بہتر صلہ انکو ضرور دیدینگے پھر جو وقت تم قرآن

الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ لَآ اِنَّهٗ

پڑھنا چاہو تو شیطان ملعون کے شر سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو بیشک اسکا

لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلٰی الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰی رَبِّهِمْ

کوئی قابو ان لوگوں پر نہیں ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ

يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ اِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلٰی الَّذِيْنَ يَتَوَكَّلُوْنَ ۙ

رکھتے ہیں اسکا قابو تو انہی لوگوں پر (جنا ہے جو اُنکے دوست بنتے ہیں

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُّشْرِكُوْنَ ۚ وَاِذَا بَدَّلْنَا آيَةً

اور انہر جو اسکو شریک کر لیا ہے اور جب ہم نے کسی آیت کی جگہ کوئی آیت بدل دی

مَكَانَ آيَةٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ ۙ قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ

ملا کہ اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے خود وہ اسکی مصلحت سے زیادہ واقف ہے تو انہوں نے یہ کہا

مُفْتَرٍ ۙ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ نَزَّلَهُ

کہ تو مفتری ہے حقیقت یہ ہے کہ ان میں بہت کچھ نہیں جانتے تم یہ کہہ دو کہہ دو حق القدس

رُوْحَ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُنَبِّتَ الَّذِيْنَ

نے تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ جو ایمان لائے

اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِّلْمُسْلِمِيْنَ ۝ وَلَقَدْ

ہیں انکو ثابت قدم کر دے اور حقیقی اطاعت کرنوالوں کو رہدایت و بشارت ہو اور ہم خوب

Handwritten notes at the top of the page, including phrases like 'ربما', 'الفصل', and '۳۲۳'.

Vertical handwritten notes on the left margin, providing commentary on the verses.

Handwritten number '۳۲۳' in the left margin.

Handwritten word 'مبتدئ' (Mubtadi) in a box on the left margin.

Handwritten notes at the bottom of the page, including phrases like 'ربما', 'الفصل', and '۳۲۳'.



عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ

اور آنکھوں پر اللہ نے چھاپا لگا دیا ہے اور خود وہی

هُمُ الْعَاقِلُونَ ۝ لَاجِرْمًا أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ

غافل ہیں ضرور ہے کہ آخرت میں وہی لوٹا اٹھائیے

الْخٰسِرُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن

ہونگے پھر ضرور ہے کہ تمہارا پروردگار ان لوگوں کے واسطے

بَعْدَ مَا قَاتَلُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَاصْبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ

جنہوں نے آزمائے جانے کے بعد (اپنے) پھر جھوڑے پھر جہاد کے اور صبر کیا بیشک تمہارا پروردگار

مِن بَعْدِهَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ

ان باتوں کے بعد (ان لوگوں کو) بڑا بھینسے والا (اور) رحم کرنے والا جس دن ہر نفس اپنے آپ سے

نَفْسٍ مِّنْهَا دَلَّ عَن نَّفْسِهَا وَتُوِّقَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا

جھک رہا ہوا ایسا اور ہر نفس کو جو کچھ وہ کیا کرتا تھا پورا پورا

عَمِلَتْ وَهِيَ لَا يَظْلَمُونَ ۝ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

بدل دیا جائیگا اور اپنے ظلم نہ کیا جائیگا اور خدا تمہارے لیے ایک گاؤں کی مثل

قَرْيَةٍ كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهِمْ رَزْقُهَا رَغَدًا

میان کی ہے جو بچوں و مطمئن تھا اور سامان رزق اس میں ہر طرف سے

مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ

بکثرت چلا آتا تھا پھر وہاں کے باشندوں نے خدا کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انکی کثرت

لِبَاسٍ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝

کی یاداش میں انکو بھوک اور خوف کا نمایاں مزا چھایا

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ

اور کئے پاس ایک رسول انہوں سے آیا انہوں نے اسکو جھٹلایا پس جس حال میں کہ وہ نافرمان

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large 'ماہنامہ' (Magazine) stamp on the left side.



يُظْلَمُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّرَاءَ

ظلم کیا کرتے تھے پھر ضرور تمہارا پروردگار ان لوگوں کے واسطے جنہوں نے ازراہ نادانی بیوی

بِجَاهِلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ

کی بھرا کے بعد توبہ کر لی اور اخراہی کی اصلاح کی (تو) بیشک تمہارا

رَبِّكَ مِنْ بَعْدِ مَا لَغَفَوُا رَحِيمٌ ۝ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ

پروردگار ان باتوں کے بعد (اُسے) بڑا بخشنے والا (اور) رحم کرنے والا ہے بیشک ابراہیم ایک

كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ

ظلموں دل سے خدا کی فرمانبرداری کرنے والے تھے اور وہ شرکوں میں سے

الْمُشْرِكِينَ ۝ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ إِجْتِبَاهُ وَ

نہ تھے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے اُسے انکو برگزیدہ

هَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَاتَّبَعَهُ فِي

کریا تھا اور اُنکو راہِ راست بتلا دی تھی اور چنے اُنکو دنیا میں بھی

الدُّنْيَا حَسَنَةً وَآيَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ

خیر و خوبی عطا کی تھی اور یقیناً آخرت میں (بھی) وہ صاحبین میں سے

الصَّالِحِينَ ۝ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ

ہوتے پھر چنے تمہاری طرف وحی کی کہ تم کیسویں وقت ابراہیم

إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

کی پیروی کرو حالانکہ وہ شرکوں میں سے نہ تھے

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا

سوائے اسکے نہیں ہے کہ سبت تو ان لوگوں پر واجب کیا گیا تھا جنہوں نے آمسین اختلاف کیا

فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ بَيْنَهُمَ الْقِيَمَةَ

اور بیشک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text, providing commentary and explanations.

Handwritten note in a separate box on the left side of the page.

فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

جن جن میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ

تم اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي

نہیتوں کے ساتھ (انکو) بلاؤ اور اُنسے اُس طریقہ سے بحث کرو جو

هِيَ أَحْسَنُ لِمَنْ رَدَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ

بہت ہی اچھا ہے بیشک تمہارا پروردگار اُنسے بھی خوب واقف ہے جو

ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

راہِ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور اُنسے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت یافتہ ہیں

وَلَنْ عَاقِبْتُمْ فَاقْبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقِبْتُمْ

اور اگر بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی کہ تمہیں سختی کی گئی تھی

بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا

اور (اے رسول) صبر کرو اور تمہیں صبر نہوگا مگر اللہ ہی کی مدد سے اور اُن

تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ

(شہداء احد) کے متعلق رنج نہ کرو اور (کافرا) جو چال چلتے ہیں اُس سے

مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ

دشمنگ نہو بیشک اللہ اُنسے ساتھ ہے جو (کفر و گناہ سے)

اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

بچتے رہیں اور اُنسے ساتھ ہے جو نیکیاں کرنے والے ہوں

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large heading 'تخل' and various verses and commentary.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page in Urdu script.